

AGP-Sec./290 July 11, 2023

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi

SUBJECT: NOTICE FOR PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

In continuation of Extraordinary General Meeting Notice published on Wednesday June 28, 2023, the shareholders are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (Regulations) amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of AGP Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, July 19, 2023, at 11.00 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, subject notice along with ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.agp.com.pk for download.

Yours Sincerely,

Umair Mukhtar Company Secretary

AGP LIMITED



This is in continuation of Extraordinary General Meeting Notice published on Wednesday June 28, 2023. PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND

VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (Regulations) amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of AGP Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, July 19, 2023, at 11.00 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.agp.com.pk for download.

Karachi July 11, 2023

Umair Mukhtar Company Secretary

Procedure for E – Voting:

Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company whose valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses are available in the register of members of the Company by the close of business of July 11, 2023.
The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
E-Voting lines will start from July 13, 2023, 090 a.m. and shall close on July 18, 2023, at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

a. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address B-23-C, S.I.T.E, Karachi, with attention to the Company Secretary, or email at corp.affairs@agp.com.pk one day before the Extraordinary General Meeting on July 18, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. Scrutinizer

Scrutinizer In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s UHY Hassan Naeem & Co, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11 A of the Regulations.

AGP LIN	AITED	AGP
POSTAL BALLO	DT PAPER	we value life
for voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeti	ng to be held on Wednesday, July	y 19, 2023, at 11:00 a.m. at Ramada Karachi
Creek, Zulfiqar Street 1, DH. Phone: +92-21-111 247 247 We		
Folio / CDS Account Number	in the second se	
Name of Shareholder / Proxy Holder		
Registered Address		
Number of shares Held		
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)		
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, cc	rnoration and federal Governme	ent)
Name of Authorized Signatory	sporation, and rederal Governine	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached	d)	
Resolution For Agenda Item No.2 To consider additional investment of up to seven and a half percent (7.5%) of the equit Limited, where AGP had been previously authorized by the shareholders in the meeting h paid up capital of OBS Pakistan (Private) Limited and, if deemed appropriate, pass with o under Section 199 of the Companies Act, 2017 read together with the Companies (Investme	eld on July 28, 2022, to invest eig r without modification, the follow	hty-five percent (85%) of the equity / issued and ing resolutions as special resolutions as required
"RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to invest in its associated accordance with applicable laws, in the form of equity investment and resulting in a hold capital of OBS Pakistan (Private) Limited for an indefinite period."	l company, OBS Pakistan (Private ling of up to ninety-two and a half) Limited an amount up to PKR 2,400 million, in percent (92.5%) of the issued and paid-up share
"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive / Non-Executive Director alon other person(s) as may be authorized by them (the "Authorized Persons"), to take all nece deeds and things necessary, and to deliver and execute all such deeds, agreements, dee including any ancillary document thereto or provide any such documentation for and on or any of them think appropriate for or in connection with or incidental for the purposes of the OBS Pakistan (Private) Limited and securing its obligations thereunder.".	ssary steps to implement and exec clarations, undertakings, collatera behalf and in the name of the Com	cute the proposed transaction, to do all such acts, al / securities, guarantees, and letter of comfort ipany as may be necessary or required or as they
"FURTHER RESOLVED THAT all actions heretofore taken by the Authorized Person ratified and adopted by the Company in full."	ns on behalf of the Company in res	spect of the above matters are hereby confirmed,
A Statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the above-menti	ioned special business mentioned	in Agenda no. 2 is annexed with the notice.
Resolution For Agenda Item No.3 To consider the extension or renewal of funding facilities to and from associated comp which were approved earlier by the shareholders in the meeting held on July 28, 202 resolution, as a special resolution as required under Section 199 of the Companies Act, Associated Undertakings) Regulations, 2017:	2 and, if deemed appropriate, pa	ss with or without modification, the following
"RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to renew and extend financing facilities and / or security to its associated companies, namely OBS AGP (Pri Million each to meet excess debt requirements and/ or funding shortfalls or to otherwise financial obligations."	vate) Limited and OBS Pakistan (Private) Limited, up to the amount of PKR 500
"FURTHER RESOLVED THAT such facilities extended by the Company to its asso period of one (1) year and shall be renewable annually for each successive year, unless no	ciated companies as per the prece t renewed, be and is hereby recomm	eding resolution, will initially be extended for a mended to the Board of Directors for approval."
A Statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the above-menti	oned special business mentioned	in Agenda no. 3 is annexed with the notice.
Instructions I	For Poll	
1. Please indicate your vote by ticking $(\sqrt{)}$ the relevant box.		
2. In case if both the boxes are marked as ($$), you poll shall be treated as " <u>Rejected</u> "	•	
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by in the appropriate box below;		
Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 2		
Resolution For Agenda Item No. 2		
Notes / procedures for submission of duly filled-in Ballot Paper: 1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at B-23-C, S.I.T.E, Karachi, wi 2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot 3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Tuesday J voting. 4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (In case of ff 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will the 6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the paper should Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.agg original/photocopy published in newspapers.	form. uly 18, 2023. Any postal Ballot re- oreigner). e rejected. e Ballot Paper Form must be accoo- tter etc., in accordance with Secti- the Counsel General of Pakistan I	eccived after this date, will not be considered for mpanied by a copy of the CNIC of an authorized on(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as aving jurisdiction over the member.
		Date:
Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)		

ر _{مط} ط	.7 . 1	AGP
پ ميتر	اے جی	we value life
	202 کوشائع ہونے دالے غیر معمولی ا بیریشہ	
کے ذریعے ووٹ دینے کا طریقتہ کا ر ۔پاکتان (ایس ای پی) کی جانب جاری کئے ^س کے تیم شد راہنے کی ہے کہ دہ الیکٹرونک دوئلک کی ہولت کے زرید دوٹ	ل بيك)ريگوليشنز 2018 ميں سيكور ٹيزاينڈ ايم چينج كميشن آف	مبران کوبذریعہ ہٰذا مطلع کیاجا تاہے کہ پنیز (پوٹ
	د درجہ بند تمام بزنسز پرممبران،ڈاک کے ذریطے دوٹ دیں۔ سے مبران کو بر دزبدھ 19 جولائی 2023 یوقت ضبح 11:00	دینے کاحق فراہم کریں اور آسیش بزنس کے طور ہ اس کے مطابق ، اے جی پی لمیٹڈ ('' تمپنی'') یہ
	یونسلک ہےاور ریمپنی کی ویب سائٹ vw.agp.com.pk	ڈالنے کی اجازت ہوگی۔
عمیر مختار کمپنی سیکریٹری		^{کر} اپی 11جرلائی2023 ای۔ووٹنگ کا طریقہ کار
ن کے کارآ مدشاختی کارڈ نمبرز، سیل نمبرزاورای میل ایڈریسر سمپنی	ءان ممبران کیساتھا کیا کی نے ذریعی شیئر کی جائیں گی ج)2 کو برنس کے اختتام تک دمتایا ہوں گے۔	(a) ای ود ٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی ک
اڈی تی شیئر رجسڑ ارسر دسز (ای دونٹک سروں فراہم کنندہ ہونے بہ	لیں ایم الیس ممبران کو ہتائے جائیں گے۔	کےناطے) کے دیب یورٹل سے بذریعہا
ام5:00 بج بند ہوں گی ہمبران اس عرصہ میں کسی بھی وقت اپنا	<i>طر</i> ف سے قرارداد پرووٹ ڈالنے کے بعد،اسے بعد میں تبدیل	(d) ای۔دورننگ لائنز 13 جولائی 2023 صبح
شاختی کارڈ کی نقل کیسا تھ میٹنگ کے چیئر مین کے پاس کمپنی کے اسل corp.affairs@agp.com.pk چنیہ معمولی اجلا تر نتایہ انتحار کی بر مراحقان سے مراثل معہ فردا سم	ہ طور پر، پر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائز ڈقو می	(a) ممبران اس بات کویقینی بنائیں کہ با قاعد رجنٹر ڈایڈر لیسC-B-23-8، سائٹ ، کرا
مىسىت كەرىپ پېرىر كىك مەربىك پېرىك ايك كىوى آر،ر.يىلە آد خەفر موكمېنى كەسكردشا ئزر كىطىرىركا	(SC	اسکروٹنائزر (RUTINIZER
بیپ برگار دولند بر ای (از جن ک سر دون در می ورد کار در کار فراغض انجام دے گا جیسا کہ ریگولیشنز کے ضابطہ 11 میں بیان کیا 1	رور سے مرد ہوتا کا طرح ک کی ہایں کو دی کو روز اور ک لے ایپش برنس کے لین دین اوردیگر ذمہ داریوں کو سنصالنے کے	کرتے کیلیے مقرر کیاہے، جو کہ میڈنگ میں ہونے وا کرنے کیلیے مقرر کیاہے، جو کہ میڈنگ میں ہونے وا ایک میں
پىلىيىر	اے جی	
}	پوسٹل بیلٹ پیپ	
)2 پوقت صحى11:00 بىج بىقام رامدا كرا چى كريك، ذ، لےغیر معمولی احلاس عام كے سپیش برنس كیلئے بذریعہ یو	
	om.pk+92-21-111-247-247	
		شيئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈرکا نام
		رجىٹر ڈایڈرایس موجود شیئر ز کی تعداد
	کی صورت میں)(فوٹو کا پی منسلک کریں) پر بید لیشہ بید والے مذہبہ سے ز	شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر(غیرمکلی ہونے مدینہ فی دیبا سام میں بکا نہ مدینہ مراد
	کار پوریٹ، کار پوریشن اور فیڈ رل گورنمنٹ کے نم	مجاز دستخط كننده كانام
(بر(غیرملکی ہونے کی صورت میں)(کا پی منسلک کریں قدار داد :	مجاز د ستخط کننده کا شاختی کارڈ/ پاسپورٹ نم ایجانڈا آنڈم نمبر 2 کیلئے
) (7.5%) تک کی اضافی سرمایہ کاری پڑورکرنا، جہاں اے تکی پی کو پہلے ایچ یہ کہ لینڈ کھا کیو رٹم) جاری کردہ اور اداشدہ سرم اے کا پیکا چیا کہ قصلہ رارداد دی پاس کریں، جیسا کہ کینڈز ایک 2017 سے تکشین 1999 شیکھنیز	ٹد کیا یکویٹی/ جاری کردہ اورادا شدہ سرمائے کے ساڑھے سات فیصد زمولڈرز کی جانب سے اختیار دیا گیا تھا کہ وہ او کیا ایس پا کستان (پا	الیسوی ایٹڈ کمپنی ،او کی ایس پاکستان (پرائیویٹ) کمیڈ 28 جولائی 2022 کومنعقد ہونے والی میٹنگ میں شیڈ
	باری)ریگولیشُز 2017 کیساتھ ملاکر پڑھیں، کے تحت ضروری ہے۔	(ایسوی ایند کمپنیوں یاایسوی ایند انڈ رٹیکنز میں سرمایہ ک
	نان(پرائیویٹ)لمیٹڈ کے جاری کردہادراداشدہ شیئر کیپٹل کی ہولڈنگ	کرنے کی مجاز ہے اور اس کے نتیج میں اوبی ایس پا کن
یک در روز مرکز برجال میں بی جی سے معاور روئے بی دی موجر یک چیز میں کرنے اوراس طرح کے تمام اعمال ،معام دون دفکر دیشتر انڈر ا کے اوراس کے نام پر ایسک لوگی دستاہ دیہ فراہم کرنا چوخرور میں بو یا مطلوب پا	مد کیلیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے ، ایسے تمام اعمال ، ڈیڈر اور ضرور	افراد'') مجوزه لین دین کونافذ کرنے اوراس پرعملدرآ
ے مروض کے بالی ایک مرور کا مرور کا مرور کر مرور کر مرور کر میں المور اونی ایس پاکستان (پرائیویٹ) کمیٹڈ کے دریے قرض پڑھانے اور	ام دینے کے مقاصد کیلئے یا <i>اس کے سلسلے</i> میں مناسب سجھتا ہے جس میر	
اقدامات کی بذریعہ مِذاتصدیق، توثیق اور کمپنی کی طرف سے تکمل طور پر		
ہے، نوٹس کیرا تھونسلک ہے۔	ائیٹٹٹ جو کہ ایجنڈ انمبر 2 میں مذکور، مذکورہ بالا ایجنٹل بزنس سے متعلق یہ داد	
سطع یا تجدید پرغورکرنا، جن کی منظوری 28 جولا کی 2022 کومنعقد ہونے والطور خاص قرار دادیں پاس کریں، جیسا کیکینزا یک 2017 کے سیکشن	نڈاوراو بی ایس پاکستان(پرائیویٹ) کمیٹڈ کوفنڈ نگ کی سہولیات کی تو	اليوى اينڈ كمپنيوں، يعنى اے جى پى (پرائيويٹ) لميڈ
	بنز میں مرمایہ کاری)ریگولیشنز 2017 کیساتھ ملاکر پڑھیں، کے تخت	199 جسيمينيز (ايسوسي ايند كمينيوں ياايسوسي ايند اندر ثيك
قرض کی ضروریات کو پورا کرنے اور / یا فنڈنگ کی کی کو پورا کرنے کیئے یا		(پرائیویٹ) کمیٹڈاوراو بی ایس پاکستان (پرائیویٹ
کی جائیگی،ابندائی طور پرایک(1) سال کی مدت کیلئے توسیع کی جائیگی اور		"مزید قرار پایا که، تمپنی کی جانب سے اس کی ایسو ہی ا
	اشیٹنٹ جو کدا بچنڈ انمبر 3 میں مذکور، مذکورہ بالا انتیش بزنس سے متعلق	
	پول کیلئے ہدایات	(1) براه مهربانی متعلقه خانه کوه کانشان لگا کرا۔
	پے دوٹ کا کشائد بک تری <u>ں</u> ۔	
ر مدیر مربع از مدیر مربع از منابع المربور مربع از از از از مربع از از از ا	گیاہے، تو آپ کے پول کو''مستر د''سمجھا جائیگا۔	
ل میں مناسب خانہ میں a کا نشان لگا کر قرار داد پر میر کی/ اپنی میں/ ہم اس قرار داد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)	گیا ہے، تو آپ کے پول کو' مستر ڈ' سجھاجا ئیگا۔ لیے میں اپناووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے میں اور ڈیل	
ل میں مناسب خانہ میں a کا نشان لگا کر قرار داد پر میر کی/ا پٹی میں/ہم اس قرار داد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)	گیا ہے، تو آپ کے پول کو' مستر ڈ' سجھاجا ئیگا۔ لیے میں اپناووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے میں اور ڈیل	میں/ ہم ، بذریعہ ہذا، مندرجہ بالا قراداد کے سلے ارضا مندی یا اختلاف رائے پہچاتے ہیں۔
میں/ہم اس قرارداد سے اختلاف کرتے میں (خلاف) 	سیلی بیو آپ کے پول کو' مستر ذ' سیجھا جائیگا۔ سلیے میں اپنادوٹ بلٹ کے ذریعے استعہال کرتے میں اور ڈیا میں/ ہم اس قرارداد کی منظور کی دیتے ہیں (حق)	یں/ ہم، بذرید ہذا، مندریہ بالاقر اداد کے سل رضامندی یا اختلاف رائے پہچائے میں۔ قرار داد ایجنڈ ا آئٹم نمبر 2 کیلیے قرار داد ایجنڈ ا آئٹم نمبر 2 کیلیے قرار داد باقاعدہ نو شدہ بیلٹ پیپر جمہ
میں/ ہم اس قرار داد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) میں/ ہم اس قرار داد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) روز در الے کسی بیاد چر پر دونک کیلیے فوزین کیا جائیگا۔	ی سی بر بر آپ کے پول کو 'مستر ذ' سجحا جا ایرگا۔ طی میں اپنا ووٹ بلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ڈیا میں / ہم اس قر ارداد کی منظور کی دیتے ہیں (حق) ی کرانسے کا طریقہ کار : کی کو طلح کرتے ہوئے - 32-8 سرائٹ ، کرایی پر کو میرکر میں یا Ak ایر کے دلتر کی اوقات کار کا مدرکتی جا کی اس تاریخ کے بعد موسوا	میں/ جم ، بذر بعد ہذا ، مندر رجہ بالا قر اداد کے سل رضا مندی یا اختلاف رائے پہنچا تے ہیں۔ قر ارداد ایجنڈ ا آئیم نمبر 2 کیلیے قر ارداد ایجنڈ ا آئیم نمبر 2 کیلیے قر ارداد (1) با تاعدہ پر کر دو تلک میچ ، چیز میں کو تین تکریز (1) با تاعدہ پر کر دو تلک میچ ، چیز میں کو تین تکریز (2) ی این آئی کی پا پیورٹ (اگر نیز کی جو کی بو کی پائی کا جو لی کا 2
میں/ ہم اس قرار داد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) میں/ ہم اس قرار داد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) میں ہونے دالے کسی تک یک میں پر درشک کیلیے فوزش کیا جائیگا۔ میں)۔	ی بی بی تو آپ کے پول کو 'مستر ذ' سجحا جا ایکا۔ لیل بی ایتا دوت بلیف کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیا میں اہم اس قر ارداد کی معظور کی دیتے ہیں (حق) کی کو طلح کرتے ہوئے -32-8 سائنہ، کرایتی پر کو میرکر میں پاہا 20 میں دفتری ادقا ہے کہ اس تاریخ کے بعد موسوا اینڈ، اور دیش پول ہیچ ، مسر دکرد پاجایگے۔	میں/ جم ، بذر بعد ہذا، مندرد به الاقر اداد کے سل رضا مندی یا اختلاف رائے پہلچ تے ہیں۔ قر ارداد ایجنڈ ا آئٹم نبر 2 کیلیے قر ارداد ایجنڈ ا آئٹم نبر 3 کیلیے قر ارداد (1) با تاعدہ پر کردہتا ہے بیجہ میں کو تین تک بطر (1) با تاعدہ پر کردہتا ہے بیجہ میں کو تین تک بطر (2) یا تین آئی کی پاچورٹ (آگر فیر کی ہوں پو تل (3) باخل بچرد شخط شدہ، خلائ می خد، بیکا ہوا باخل
میں/ ہم اس قرار داد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) میں/ ہم اس قرار داد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) روز در الے کسی بیاد چر پر دونک کیلیے فوزین کیا جائیگا۔	یل بے، تو آپ کے پول کو ^د مستر ذ ^ی سجعا جائیگا۔ کیل بے، تو آپ کے پول کو ^د مستر ذ ^ی سجعا جائیگا۔ میں/ ہم اس قر ارداد کی منظور کی دیتے ہیں (حق) میل مال کر آلد حال کی منظور کی دیتے ہیں (حق) کا وطل کر کے بور کے -23- 18 سائنہ ، کرا پی پر کو تیر کر یں پایلا 20 سیل خارم کے ساتھ منگ کیا جائے۔ ایک دی دخط کی انتہ مال جائی جو مسر دکر دیا جائیگا ہے۔ ایک نکر دہو نے کی مسر در کہ راغ بائی۔ انھر ہن شرق کی اچور آف ناہ رنی / اخارائ میٹن ایک دیشر دیں دیک بلا	میں/ ہم ، بذر بعد ہذا ، مندر سر بالا قراد اد کے سل رضامندی یا اختلاف رائے پہلی سے ہیں۔ قرار داد ان کے پہلی سے ہیں۔ ایجنڈ ا انتظر نمر 2 کیلیے قرار داد بالقاعدہ کپر شدہ میں کہ پیشیز میں کو پہلی کہ بیا (1) ہاتا ہو، پکر دو ملے میں بینیز میں کو پہلی کہ بیاں (2) یا تیا تی کی پا ہیدر نظر 18 جمالی 23 (3) یک ملی بیر دخط شدہ ملاء میں کو پیل بادائی 23 (3) یک باذی کار وی ایک می دؤ قس، دائر اور ادر کو از در کے شاخی کار ڈکی ایک تس برد قرار داد
میں/ ہم اس قر ارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) میں/ ہم اس قر ارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف) میں ہونے دانے کی تک پھی پر درتک کیلیے خور ٹیں کیا جائیگا۔ میں)۔ طلاق سیکھنز 138 یا 139 کے مطابق ، ہیلے ہیچ سے ہمرادلا زی طور پر	ی بی بی تو آپ کے پول کو 'مستر ذ' سجحا جا یکا۔ لیل بی او وت بیل کے پول کو 'مستر ذ' سجحا جا یکا۔ میں ایتا وہ وت بیلٹ کے ذریع استعمال کرتے ہیں اور ڈیا میں ایس ایس تر ارداد کی معظور کی دیتے ہیں ('چن) کی کو انسے کا طریقہ کار : کی کار دیتی او تا تحار کے اید رکتی جا کی اس تاریخ کے بعد موسوا ایش اور رش پول میچر مستر دکر دیاجایگ ۔ اند دون شد قتل پول در آف تا رفی / اخترار کار یک رکتا ہے۔ ان شد ون شد قتل پول دان ای ای اف از کو نتی لیزو غیر و ضلک ہو ان شروہ دی جو جم پر داختا در کا اخترا کر چا ہے۔	میں اہم ، بذر بعد ہذا ، مندر ربہ بالا قر اداد کے سل رضا مندی بیا اختلاف رائے پہلی تے ہیں۔ قر ار داد ایجند ا آئیم نمبر 2 کیلیے قر ار داد ایجند ا آئیم نمبر 2 کیلیے قر ار داد (1) با تلعدہ پر کردہ جل میں بینیز میں کو بینی کر بی کا بینی کر بینی کر بی (1) با تلعدہ پر کردہ جل میں بینیز میں کو بینی کو بینی کر بینی کو بینی کر بینی کا داد کا میں دون قر ار داد کہ کی کہ بینی کا بینی کا بینی کا بینی کا بینی کا دو کی کا میں کے بینی کر بینی کا دی کا بینی بیاد قر کی کا دو کی کا میں کہ بینی کا دو کی کا میں کہ میں کہ بینی کا دو کی کا میں کا دو کی کا میں کہ میں دون قر ار داد دار داد کر کی میں کا دو کی کا بینی کر دو تک کا دو کی کا ہی کہ کا میں کہ میں دو تک کا دو کی کا ہی کہ میں کہ میں دو تک کا دو کی کا تک میں کہ میں دو تک کا بی کا میں کہ کا میں کا بی کا کہ میں کا کہ کا میں کا دی کا کہ بی کا کہ کا میں کا بی کا بی کا ہیں کہ کا کہ میں کا کہ کا میں کہ کا کہ کہ میں کا دو کی کا ہی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا تک کہ میں کہ کا کہ کہ کا تک کہ میں کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ
میں/ ہم اس قر ارداد سے اختلاف کرتے میں (خلاف) بیں/ ہم اس قر ارداد سے اختلاف کرتے میں (خلاف) بی اور دالے کی بحی تبلہ ہو ہود تک کیلیے فور نیں کیا جائیگا۔ میں اور نے کی صورت میں قنام کو رو یہ دو نے کی صورت میں ، قنام وز کیلے میں یا اور بیکل/اذبار میں شائع شدہ کی فو نوکا پی بھی استعمال کی	یل بی تو آپ کے پول کود مستر ذ ^{یر س} یجها جا لیگا عل میں اینا ووٹ جبلٹ کے ذریعے استعمال کرتے میں اور ڈیل عیر کی ایم اس قر ارداد کی منظور کی دیتے ہیں (حق) عیر کی کو مطلح کے مطلح منطقہ تکار کی کو مطلح کرتے ہوئے - 32- 8 سائٹ کرا پٹی پر کو ریئر کر میں پادا کے گھر دختان ہوتا سے اور کی اور تی ایم اس تاریخ کے بعد موسول ایشا دور مظن پول ہے مستر دکر دیا جایگا۔ ت کا ایک مائٹ دور نے کا صورت کی میں اس تاریخ کے بعد موسول ایشا دور مظن پول ہے مستر دکر دیا جایگا۔ ت کا ایک مائٹ دور نے کا صورت اختیا رکھتا ہے۔ ایک دونا مور دی ہے جامر رواز داختیا رکھتا ہے۔ ی سو میں میں میں میں میں داخل اور اختیا رکھتا ہے۔ میں میں میں میں میں میں میں داخل اور اور اختیا رکھتا ہے۔	میل جم ، بذریعه بذا ، مندریه بالا قراداد کسی رضامند کیا اختلاف رائے بہتی بنے بیں۔ قرار داداد ایجنڈ ا آئٹم نمر 2 کیلیے قرار داداد ایجنڈ ا آئٹم نمر 2 کیلیے قرار داداد ایجنڈ ا آئٹم نمر 3 کیلیے قرار داداد (1) باقارہ پر کر دہلے ہیں بین کو بین کیا ہو) پر الحاظہ میں کر دہلی ہیں کہ دور تعلق کا دار کی چوں پر (2) کامل غیر دخلا شدہ ملاء کی شرق یا ہوں پر (3) کامل غیر دخلا شدہ ملاء کی شرق یا ہوں تی میز دیل میں میں در حالی میں کی دیک ہوا تو تی کا درداد (3) کامل غیر دخلا شدہ ملاء کی داراد کی تعلق کی دار کی تی ہوں پر (3) کی باؤ کی کا دو کی ایک تل پر داؤ آر رداد کی ایک باز قرد کے شاخی کا دو کی ایک تل پر داؤ آر رداد کی درجتا دیزا ای قوانس جنرل آف پا کستان سے تعد لیز ایک دیک دیک سائی سائی میں دیک را تو کا دو میں میک دیک سائی سے میں دیک را تھی کا دار کا رہ داد کی
میں/ ہم اس قر ارداد سے اختلاف کرتے میں (خلاف) میں/ ہم اس قر ارداد سے اختلاف کرتے میں (خلاف) ماہ ہے دوالے کی پھی جد میں پرورتک کیلیے فورتیں کیا جائیگا۔ میں)۔ دنا چاہتے فیروتکی باذی کار پر رہے وغیرہ ہونے کی صورت میں، تمام	سیل بر تو آپ کے پول کود مستر ذ ^{یر سی} حیا جا لیگا۔ سل میں اینا دوت جلت کے ذریعے استعمال کر تے ہیں اور ڈیا میں / ہم اس قرر ارداد کی منظور کی دیتے ہیں (حق) میں / ہم اس قرر ارداد کی منظور کی دیتے ہیں (حق) کا کو طلح کر تے ہوئے - 3- 13 سائنہ کرا پتی پر کو رقبی کی اور میں میں میں میں میں میں ایک ہیں اس مار میں کی ایک ہو میں موسور میں میں میں میں میں میں میں میں میں کی مورت کی مورت کے تک دختر کی باد میں میں کینز ایک میں ایک راحق کی طلح میں ایک دو تر کی میں ایک ایک ایک میں بی کی میں ایک کی مورت کی مور میں کینز ایک میں ایک کی مورت کی مورت کی میں میں میں میں میں کینز ایک میں	میس ایم ، بذر بعد بذا ، مندرید بالا قر اداد تسیس رضا مندی یا اختلاف رائ پیچا می ب قر ارداد ایجند ا آنتم نم بر 2 سیلیم قر ارداد ایجند ا آنتم نم بر 3 سیلیم قر ارداد باقاعده نور شده بیل می بیچر می کو بخن تسایر (1) با تاعده بر کرده بیل می بر از گریش بری کو بخن (2) تا این آنی کا پا میدر از ار گریش بری بود (3) می بر دسیل می بردش کا بر در شل 18 برالی 23 (4) ایک بیچر محط کا خاختی کا دار پا میدر بر پر (5) می با در حساختی کا دو کی ایک تش برد قر ارداد (6) ایک باذی کا در کی ایک تش برد قر آر ارداد (6) ایک باذی کا در کی ایک تش برد قر آر ارداد (7) میل می برد می کا دو کا می کس ایم برد قر آر ارداد روستاه برد از آن می کا دی کا می می دو تر آن می می برد ایک می بی می در می کا در کا می تش برد قر آر ارداد می در تا و برای می کا دی کا می می دو تر می می برد قر آر ارداد ایک می می در تشار می می کا در کا می تش برد قر آر ارداد می در تا و برای می کا دی کا می